



زبان تک رسائی کا شکایتی فارم

نیو یارک اسٹیٹ کی زبان تک رسائی کی پالیسی عوام کا سامنا کرنے والی کچھ ایجنسیوں سے درکار کرتی ہے کہ براہ مہربانی جانے والی ترجمے کی خدمات فراہم کریں اور ابہ دستاویزات کا نیو یارک اسٹیٹ کی کم از کم بارہ سب سے عام بولی جانے والی غیر انگریزی زبانوں میں ترجمہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ایجنسی کی زبان تک رسائی کی خدمات کے حوالے سے مشکل کا سامنا ہوا ہو تو آپ اس شکایتی فارم کو پُر کر کے اوپر فراہم کردہ رابطے کی نصیلات استعمال کرتے ہوئے جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ کی شکایت میں موجود تمام ذاتی معلومات کو خفیہ رکھا جائے گا۔

<p>1. شکایت کنندہ: پہلا نام: _____ اخیری نام: _____ زپ کوڈ: _____</p> <p>میں اپنا نام نہ فراہم کرنے کو ترجیح دوں گا/گی۔ براہ مہربانی یاد رکھیں کہ اگر آپ رابطے کی کوئی معلومات فراہم نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کو ان اقدامات سے آگاہ نہیں کر سکیں گے جو ہم آپ کی شکایت کے ازالے کے لیے کر رہے ہیں۔ ترجیحی زبان (زبانیں): _____</p> <p>فون نمبر: _____ ای میل کا پتہ: _____</p> <p>کیا یہ شکایت درج کروانے میں کوئی اور آپ کی مدد کر رہا ہے؟ <input type="checkbox"/> نہیں <input checked="" type="checkbox"/> بہانہ: _____ اخیری نام: _____</p> <p>ای میل کا پتہ اور/یا فون نمبر: _____</p>
<p>2. آپ کو کون سی زبان (زبانوں) میں خدمات درکار تھیں؟</p> <p>کیا مسئلہ درپیش ہوا؟ تمام لاگو بونے والے خانوں پر چیک کا نشان لگائیں اور نیچے وضاحت کریں۔</p> <p>مجھے مترجم کی پیشکش نہیں کی گئی</p> <p>میں نے مترجم کے لیے درخواست کی اور مجھے انکار کر دیا گیا</p> <p>مترجم کی صلاحیتیں اچھی نہیں تھیں (اگر معلوم ہو تو ان کا نام نیچے سیکشن 5 میں درج کریں)</p> <p>مترجم نے غیر اخلاقی یا نامناسب تصریح کیے</p> <p>میں نے مترجم کے لیے کافی زیادہ دیر تک انتظار کیا</p> <p>مجھے اس زبان میں فارم یا نوٹس نہیں دیے گئے جو میں سمجھ سکتا/سکتی ہوں (درکار دستاویزات کے ناموں کی فہرست نیچے سیکشن 5 میں درج کریں)</p> <p>دیگر (وضاحت کریں)</p>
<p>4. یہ واقعہ کب ہوا؟ اگر ایسا ایک سے زائد مرتبہ ہوا ہو تو تازہ ترین واقعے کی تاریخ درج کریں۔</p> <p>تاریخ (ماہ/دن/سال): _____ وقت: _____</p> <p>یہ واقعہ کہاں ہوا؟ فون پر <input checked="" type="checkbox"/> ذاتی طور پر پتہ فراہم کریں:</p>
<p>5. واقعہ بیان کریں۔ واضح الفاظ میں جس قدر تفصیل سے ممکن ہو بیان کریں۔ اگر ایسا ایک سے زائد مرتبہ ہوا ہو تو بر واقعہ بیان کریں۔ آپ جن خدمات اور دستاویزات تک رسائی کی کوشش کر رہے تھے/اربی تھیں ان کی فہرست درج کریں۔ معلوم ہو تو شامل افراد کے نام، پتے اور فون نمبر شامل کریں۔ ضرورت کے مطابق اضافی صفحات استعمال کریں اور بر پرست پر اپنا نام لکھیں۔</p>
<p>6. کیا آپ نے محکمے/ایجنسی میں کسی سے شکایت کی؟ بہانہ کی صورت میں، شامل کریں کہ آپ نے کن سے بات کی اور ان کا جواب کیا تھا۔ براہ مہربانی و واضح طور پر بیان کریں۔</p>
<p>نام درج کریں: _____</p> <p>تاریخ (ماہ/دن/سال): _____</p> <p>(شکایت کنندہ)</p>

اس خانے میں نہ لکھیں۔ صرف دفتری استعمال کے لیے۔

Date: _____ Reviewer: _____
Resolution: _____